

## رجسٹریشن کے لیے نوٹس

نقد پے آؤٹ اسکیم کا مقصد ایک طرف مقامی استعمال کی حوصلہ افزائی کرنا اور اسے بڑھاوا دینا ہے، اور دوسری طرف لوگوں کو مالیاتی بوجھ سے نجات فراہم کرنا ہے۔

### اہلیتی معیار

اندراج شدہ فرد کو اسکیم کے لیے اہلیتی معیار کی تکمیل کرنی چاہئے، جیسے کہ 31 مارچ 2021 کو یا اس سے پہلے، اندراج شدہ فرد کی عمر 18 سال یا زیادہ ہونی چاہئے اور اسے یا تو ہانگ کانگ کا درست مستقل شناختی کارڈ والا یا استثناء کے سرٹیفیکٹ والا ہانگ کانگ کا مستقل رہائشی ہونا چاہئے۔

### رجسٹریشن اور ادائیگی

اہلیتی معیار کی تکمیل کرنے والے اندراج شدہ افراد کو ادائیگی حاصل ہوگی۔ ان کی انفرادی صورتحال کے لحاظ سے، اہل افراد اسکیم کے لیے 21 جون 2020 تا 31 دسمبر 2021 تک اپنے مقامی ہانگ کانگ ڈالر کے اپنے نام والے سیوونگ/ کرنٹ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست بینک ٹرانسفر کے لیے بینکوں کے ذریعہ یا چیک سے ادائیگی کے لیے ہانگ کانگ پوسٹ پر رجسٹر کروا سکتے ہیں۔

### رجسٹریشن کے چینلز

اندراج شدہ افراد درج ذیل چینلز کے ذریعہ مکمل رجسٹریشن جمع کر سکتے ہیں –

### بینکس

#### الیکٹرانک رجسٹریشن

1. ای-بینکنگ خدمت یا کسی مخصوص بینک کی ویب سائٹ کے ذریعہ، جہاں پر دستیاب ہو۔

### کاغذی فارم

1. کسی مخصوصی بینک کے ڈراپ-باکس کے ذریعہ؛ یا
2. لفافہ کے ذریعہ جس پر کسی مخصوص بینک کا نام درج ہو، اور اس پر "GPO Box 182020, Hong Kong" کا پتہ لکھا ہو۔ اگر ہانگ کانگ میں ڈاک سے بھیجتے ہیں تو ٹکٹیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ادائیگی اندراج شدہ فرد کے بینک اکاؤنٹ میں کی جائے گی

### ہانگ کانگ پوسٹ

#### کاغذی شکل (ای-فارم بھی دستیاب ہے)

1. کسی بھی پوسٹ آفس کے ڈراپ-باکس کے ذریعہ؛ یا
2. لفافہ میں جس پر "GPO Box 182020, Hong Kong" کا پتہ لکھا ہو۔ اگر ہانگ کانگ میں ڈاک سے بھیجتے ہیں تو ٹکٹیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔

کامیاب اندراج شدہ افراد کو مخصوص پوسٹ آفس سے بذریعہ ڈاک یا SMS چیک لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

### نظام الاوقات

اندراج شدہ افراد درج ذیل شیڈیول کے مطابق گروپس میں رجسٹر کر سکتے ہیں –

ادائیگی	رجسٹریشن	سن پیدائش	الیکٹرانک رجسٹریشن (بینکس)
6 جولائی 2020 سے	21 جون 2020 سے	گروپ کا کوئی اہتمام نہیں ہے لیکن پہلے دو ہفتے میں رجسٹر ہونے والے اندراج شدہ افراد کو ایک ہی وقت میں	

		ادائیگی حاصل ہوسکتی ہے	
15 جولائی 2020 سے	21 جون 2020 سے	1955 میں یا اس سے پہلے پیدا ہوئے	کاغذی فارم (بینکس اور ہانگ کانگ ڈاک)
29 جولائی 2020 سے	5 جولائی 2020 سے	1956-1970 میں پیدا ہوئے	
12 اگست 2020 سے	19 جولائی 2020 سے	1971-2002 میں پیدا ہوئے	

استفسار  
زبانی ترجمہ کے لیے، CHEER کو کال کریں۔